



سوال

(204) خاوند کا اپنی بیوی سے خندہ پیشانی سے پیش ناآنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرا خاوند، اللہ سے معاف فرمائے، اس بات کے باوجود کہ وہ اخلاق فاضلہ کا مالک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے مگر میرے ساتھ گھر میں خندہ پیشانی سے بہنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ ہمیشہ چہرہ پر شکن اور دل سے تنگ رہتا ہے۔ کبھی وہ بلوں کہہ دیتا ہے کہ اس کا سبب میں ہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد اللہ میں اس کا حق پورا کرتی ہوں اور کو شش کرتی ہوں کہ اسے راحت اور اطمینان پہنچاؤں اور ہر اس چیز سے دور رہوں جو اسے بری لگتی ہے اور اس کے تصرفات پر صبر کرتی رہوں۔

اور جب بھی میں اس سے کچھ مانگتی ہوں یا کسی معاملہ میں اس سے کلام کرتی ہوں تو وہ غصہ اور جوش میں آکر کہتا ہے کہ یہ کیسی بیہودی اور کم عقلی کی بات ہے۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے خوش بخوش رہتا ہے... رہی میری بات تو میں نے اس سے سرزنش اور بد معاشی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات سے دکھ پہنچتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اور کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ گھر کو چھوڑ دوں۔

اور اللہ کہ میری تعلیم متوسط درجہ کی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب کیا ہے، میں اسے ادا کر رہی ہوں۔

فضیلت مآب! اگر میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں اور اپنی اولاد کی تربیت کروں اور خود اکیلی زندگی کے لیے مشقت کروں تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟... یا میں اسی حال میں اس کے ساتھ رہوں اور اس کے کلام، مشارکت اور ایسے احساسات پر صبر کیے جاؤں؟

مجھے مستفیہ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ (ام عبداللہ۔ الریاض)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن معاشرت زوجین پر واجب ہے۔ انہیں محبت بھرے چہرے، اخلاق فاضلہ، حسن خلق اور خندہ پیشانی سے ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۱۹... النساء



”اور اپنی بیویوں سے لہجہ رہن سن رکھو۔“

نیز فرمایا:

وَأَنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّزِجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۚ ۲۲۸ ... البقرة

”اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا (عورتوں پر) ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ))

”لہجہ اخلاق ہی اصل نیکی ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا: وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ اثَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ))

”کسی چھٹی بات کو حقیر نہ سمجھو۔ اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ تمہارے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔“

ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نکالا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((اَكْمَلُ الْيَوْمَانِ اِيْمَانًا: اِحْسَانُ خُلُقًا، وَنِيَارُكُمْ: نِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، وَاَنَا خَيْرُكُمْ الْاِطْلِقِ))

”ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے زیادہ کامل وہ ہے جس کا خلق لہجہ ہو اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے بہتر ہوں۔“

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو عمومی حسن خلق، خوش ہو کر ملنے اور مسلمانوں میں باہمی حسن معاشرت پر دلالت کرتی ہیں اور جب یہ معاملات زوجین اور اقارب میں ہوں تو ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

آپ کو اپنے خاوند سے جو زیادتی اور بد خلقی کی تکلیف پہنچی، اس پر آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا تو بہت لہجہ کیا... اور میں آپ کو مزید صبر اور اس کا گھر نہ پھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر اور قابل تعریف انجام ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۥ۶ ... الأنفال

”صبر کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

نیز فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۙ ۹۰ ... يوسف



”بے شک جو شخص اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو اللہ نیک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

نیز فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰ ... الزمر

”جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔“

نیز فرمایا:

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُصْتَبِينَ ۝۴۹ ... ہود

”آپ صبر کیجئے۔ بے شک انجام پر ہمیزگاروں ہی کے لیے ہے۔“

اور اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ آپ اپنے خاوند سے ایسے الفاظ میں مخاطب ہوں یا اس سے خوش طبعی اور ہنسی مذاق کریں جو اس کے دل کو نرم کرے اور تم پر خوش ہو جائے اور تمہارا حق پہنچنے کا سبب بنیں اور جب تک وہ اہم امور پورے کر رہا ہے اس سے دنیوی حاجات کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ تا آنکہ اس کا دل کھل جائے اور آپ کے جائز اور معقول مطالبہ کرے لیے اس کا سینہ فراخ ہو جائے۔ اس طرح ان شاء اللہ جلد ہی آپ انجام کی تعریف کرنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بھلائی کی مزید توفیق عطا فرمائے اور آپ کے خاوند کی حالت بہتر کرے اور اس کے دل میں بدایت پیدا کرے اور اسے حسن خلق، خندہ پیشانی اور حقوق کی نگہداشت رکھنے سے نوازے۔ وہی بہتر ہے۔ جس سے سوال کیا جاتا ہے اور وہی سیدھی راہ پر چلانے والا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ